

145770 - سونے کی تمام اقسام پر زکاة واجب ہے۔

سوال

میں 24 قیراط سونے کا کاروبار کرنے لگا ہوں، یہ کاروبار روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہو گا، مثلاً: میرے پاس سونے کا بسکٹ ہے، تو جب مجھے قیمت بڑھنے کا علم ہو گا تو میں اسے فروخت کر دوں گا، اور اگر ریٹ کم ہوا تو میں فروخت نہیں کروں گا، تو اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ریٹ کے زیادہ ہونے کے انتظار کے دوران بھی سونا سامان تجارت ہی شمار ہو گا؟ کیا اس پر زکاة کے احکامات لاگو ہوں گے؟ اور پھر اس پر زکاة کی مقدار کتنی ہو گی؟ واضح رہے کہ میری نیت سونے کا یومیہ بنیادوں پر کاروبار کرنے کی نہیں ہے، میں صرف ریٹ زیادہ ہونے پر ہی سونا فروخت کروں گا۔ ساتھ ہی میری درخواست ہے کہ آپ میرے لیے رزق حلال کی دعا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو ہدایت بھی نصیب فرمائے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

سونا کسی بھی مقصد کے لیے ہو اگر اس کی مقدار نصاب کے برابر پہنچ رہی ہے تو اس پر زکاة واجب ہے، چاہے سونا تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ تاہم اگر سونا استعمال کے لیے زیورات کی شکل میں ہو تو اس میں زکاة واجب ہونے پر اختلاف ہے، اس میں راجح موقف یہی ہے کہ زکاة ادا کرنا واجب ہے، جیسے کہ ہماری ویب سائٹ پر متعدد جوابات میں یہ بات گزر چکی ہے، اس کے لیے آپ سوال نمبر: (19901) اور (59866) کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

دوم:

24 قیراط کے خالص سونے کی زکاة کا نصاب 85 گرام ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اتنی مقدار میں نصاب کا مالک بن جائے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو تو اس پر زکاة واجب ہے، اور اس میں 2.5 فیصد یعنی چالیسواں حصہ زکاة فرض ہو گی، جو کہ اسی سونے میں سے نکالی جائے گی یا اس کی قیمت لگوا کر اس کی موجودہ قیمت میں سے 40 واں حصہ نکال کر دی جائے گی۔

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (64) کا جواب ملاحظہ کریں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رزقِ حلال عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کی جانب رہنمائی عطا فرمائے؛ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے۔

واللہ اعلم